



Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 4th Day	Exercise 10.3 Q # (1, 2)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find the value of unknown angles. (2.5x2=5)

نامعلوم زاویوں کی قیمت معلوم کریں۔



Q.2. The measurement of two angles is 89° and 107° . Do these angle form a straight line? (1x5=5)



دو زاویوں کی پیمائش 89° اور 107° ہے۔ کیا یہ زاویے خط مستقیم بناتے ہیں؟

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 4th Day	Exercise 10.3 Q # (1, 2)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find the value of unknown angles. (2.5x2=5)

نامعلوم زاویوں کی قیمت معلوم کریں۔



Q.2. The measurement of two angles is 89° and 107° . Do these angle form a straight line? (1x5=5)



دو زاویوں کی پیمائش 89° اور 107° ہے۔ کیا یہ زاویے خط مستقیم بناتے ہیں؟

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 4th Day	Exercise 10.3 Q # (1, 2)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find the value of unknown angles. (2.5x2=5)

نامعلوم زاویوں کی قیمت معلوم کریں۔



Q.2. The measurement of two angles is 89° and 107° . Do these angle form a straight line? (1x5=5)



دو زاویوں کی پیمائش 89° اور 107° ہے۔ کیا یہ زاویے خط مستقیم بناتے ہیں؟

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 4th Day	Exercise 10.3 Q # (1, 2)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Find the value of unknown angles. (2.5x2=5)

نامعلوم زاویوں کی قیمت معلوم کریں۔



Q.2. The measurement of two angles is 89° and 107° . Do these angle form a straight line? (1x5=5)

دو زاویوں کی پیمائش 89° اور 107° ہے۔ کیا یہ زاویے خط مستقیم بناتے ہیں؟